

## ترجمے کی مفت خدمات کے حق سے دستبرداری

نیو یارک اسٹیٹ کی پالیسی ہے کہ انگریزی کی محدود قابلیت (Limited English Proficient, LEP) والے افراد کو ریاستی خدمات تک رسائی کے وقت ترجمے کی مفت فراہم کی جائیں۔ اگر آپ کی ایجنسی کی جانب سے کی گئی شناخت (یا خود اپنائی ہوئی شناخت) بطور ایک LEP فرد ہے اور آپ اپنے ترجمے کی مفت خدمات کے حق سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ فارم پُر کرنا درکار ہو گا۔

انگریزی کی محدود قابلیت (LEP) والے فرد (یا بااختیار نمائندے) کا نام

ان سب کو نشان زد کریں جن کا اطلاق ہوتا ہے

مجھے بتایا گیا ہے کہ مجھے ترجمے کی مفت خدمات کا حق حاصل ہے

مجھے معلوم ہے کہ میں مفت مترجم کی خدمات حاصل کر سکتا/سکتی ہوں

میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت مفت مترجم کی خدمات حاصل نہیں کروں گا/گی، اس کی بجائے میں

انگریزی میں رابطہ کاری کروں گا/گی

اپنے ذاتی مترجم کی خدمات استعمال کروں گا/گی (جن کی عمر کم از کم 18 سال ہونا لازمی ہے)۔ براہ مہربانی یاد

رکھیں کہ کچھ مخصوص خدمات کے لیے، آپ کو اپنا منتخب کردہ مترجم فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔

مترجم کا نام: \_\_\_\_\_

LEP فرد کے ساتھ تعلق: \_\_\_\_\_

دیگر: \_\_\_\_\_

میں جانتا/جانتی ہوں کہ میں کسی بھی وقت اپنا فیصلہ تبدیل کر کے مفت مترجم کی خدمات حاصل کر سکتا/سکتی ہوں

تاریخ

LEP فرد (یا بااختیار نمائندے) کے دستخط

### FOR AGENCY USE ONLY

Name of Employee: \_\_\_\_\_

Division/Department: \_\_\_\_\_

Email Address: \_\_\_\_\_ Phone Number: \_\_\_\_\_

Signature of Employee

Date

\*افراد کو اس وقت LEP سمجھا جاتا ہے جب وہ انگریزی اپنی ترجیحی زبان کے طور پر نہ بولتے ہوں اور ان کی انگریزی پڑھنے، بولنے، لکھنے یا انگریزی گفتگو سمجھنے کی استعداد محدود ہو۔